



## سوال

(1102) کسی شخصیت کی مختلف شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ بعض دفعہ جب کوئی بااثر شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت پر نماز جنازہ پڑھی جانے کے بعد مختلف شہروں میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسی بزرگ ہستیوں کے لیے بھی کسی شہر میں ایسی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی تھی؟ اور اگر نہیں پڑھی گئی تھی تو کیوں نہیں پڑھی گئی؟

براہ مہربانی ایسی غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کی وضاحت فرمائیں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایک بھی ایسی مثال موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ کسی وفات یافتہ کی میت پر نماز جنازہ پڑھی جانے کے بعد دوسرے شہر یا گاؤں میں کسی صحابی نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہو؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اسلامی تاریخ میں واقعی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ خلفائے راشدین، مشاہیر صحابہ وغیر ہم فوت ہوئے، لیکن کسی مسلمان نے ان پر غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ کیونکہ اگر کسی نے ادا کی ہوتی تو ان سے تواتر کے ساتھ مستقول ہوتا، بلکہ علامہ ناصر الدین البانی تو اس رواج کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ احکام الجنائز میں اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

‘إِنَّمَا مِنَ الْبَدْعِ الَّتِي لَا يَشْرِي فِيهَا عَالَمٌ بِسُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَذْهَبِ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ’ (احکام جنازہ لشینا مفتی محمد عبدہ، ص: ۴۷)

یعنی ”یہ وہ بدعت ہے جس میں سنت اور مذہب سلف صالحین سے باخبر کوئی عالم بھی شبہ نہیں کر سکتا۔“

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ”زاد المعاد“ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یوں نقل کی ہے، کہ غائب میت اگر ایسی سر زمین میں فوت ہوئی جس پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے نجاشی پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اگر نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہو تو اس پر غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ (بحوالہ مذکور، ص: ۱۳۶)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب



## فتاوى حاقظ ثناء التمدنى

كتاب الصلوة: صفحه: 881

محدث فتوى